

الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ (Lesson 23)

ثلاثی مزید فیہ باب اِفْتِعَالٌ (فارم 8)

Sulaasi Mazeed Fihi Baab Ifti'alun Form 8

اس باب کے افعال لازم اور متعدی ہوتے ہیں۔ اس باب میں فاء کلمہ سے پہلے ہمزة الوصل اور فاء کلمہ کے بعد تاء کا اضافہ ہوتا ہے۔ فارم 8 میں بھی دو زائد حروف کا اضافہ ہوتا ہے۔

The verbs of this form are both transitive and intransitive. So it has Hamzatul Wasal before its Fa Kalimah and an addition of 'Ta' after it. There is an addition of two letters in Form 8.

باب اِفْتِعَالٌ فارم 8 ماضی معلوم : Baab Ifti'alun Form 8 Mazi' Ma'loom

ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں میں فاء کلمہ سے پہلے ہمزة الوصل مکسور اور فاء کلمہ کے بعد تاء کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور سب کلمات پر فتح ہوتا ہے۔

In the third person masculine singular segment there is an addition of Hamzatul Wasl with Kasrah before Fa Kalimah which is Sakin and that of 'Ta' after Fa Kalimah. All the other letters have Fatha.

اِفْتَعَلَ (اَكْتَسَبَ) اس نے کمایا He earned.

باب اِفْتِعَالٌ فارم 8 مضارع معلوم : Baab Ifti'alun Form 8 Mudare' Ma'loom

باب اِفْتِعَالٌ مضارع میں ماضی کے صیغے سے پہلے ہمزة الوصل کو گرا کر علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور ہوتا ہے اور لام کلمہ مضموم ہوتا ہے۔

In Mudare' Ma'loom of Form 8 By replacing Hamzat al wasl with the sign of mudare. Ain Kalimah gets a Kasrah and Laam Kalimah (third radical) has a Damma.

يَفْتَعِلُ يَكْتَسِبُ وہ کماتا ہے ۔

یاد رہے اس باب میں مضارع کی علامت پر فتح آئے گا۔ کیونکہ اس باب میں دو زائد (2) حروف کا اضافہ ہے۔

Remember sign of Mudare' has a Fatha in this Baab as there is an addition of two letters to it.

باب اِفْتِعَالٌ فارم 8 ماض مجہول : Baab Ifti'alun Form 8 Madi Majhool (Passive Past)

باب اِفْتِعَالُ فَاْرَم 8 ماضِ مَجْهولِ بِنَانِ كِ لِيْ كِ بِنِيَادِي وَزْنِ "فُعِلَ" كِ مَطَابِقِ "اَفْتَعَلَ" فَاْرَم 8 ماضِ مَجْهولِ وَزْنِ كِي "اَلْفِ اَوْرِ تَاءِ" زَانِدِه دُونُوں پَر "ضَمَّة" آئے گا۔ اور "عَيْن" كَلِمِه پَر كَسْرَة آئے گا۔

To form Madi Majhool of Baab Tafaa'ulun Form 6 on the basic scale of Mujarrad 'Fuila' the Ta Zaedah and Fa Kalimah are both given Dammah and Ain Kalimah is given a Kasrah.

اُفْتُعِلَ (اُكْتُسِبَ) اُكْتُسِبَ وَه كَمَا يَأْتِي
He was earned.

باب اِفْتِعَالُ فَاْرَم 8 مَضَارِعِ مَجْهولِ: Baab Ifti'alun Form 8 Mudare Majhool (Passive Past):

باب اِفْتِعَالُ فَاْرَم 8 مَضَارِعِ مَجْهولِ بِنَانِ كِ لِيْ بِنِيَادِي وَزْنِ "تَفَعَّلَ" كِ مَطَابِقِ "يُفْتَعَلُ" هُوْگا۔ فَاْرَم 8 مِيں مَضَارِعِ كِي عِلَامَتِ كُو "ضَمَّة" آئے گا۔ اور "عَيْن" كَلِمِه پَر فَتْحِ آئے گا۔

Mudare' Majhool of Baab Ifti'alun Form 8 is formed by giving Damma to the sign of Mudare' of the Mudare Maloom segment.

يُفْتَعَلُ (يُكْتَسِبُ) وَه كَمَا يَأْتِي (He is earned)

باب اِفْتِعَالُ فَاْرَم 8 اِسْمِ فَاعِلِ، اِسْمِ مَفْعولِ، اِسْمِ مَكَانِ وَ زَمَانِ:

Baab Ifti'alun Form 8 Ism Faa'il, Ism Mafa'ool, Ism Makaan, Ism Zamaan:

باب اِفْتِعَالُ فَاْرَم 8 سَهِي اِسْمِ فَاعِلِ، اِسْمِ مَفْعولِ، اِسْمِ مَكَانِ وَ زَمَانِ بِنَانِ كَا طَرِيْقِه ثَلَاثِي مَزِيْدِيَه اِبْوَابِ كِ قُوَاعِدِ كِ مَطَابِقِ هِي هِي۔

The method of formation of Ism Faa'il, Ism Mafa'ool, Ism Makaan, Ism Zamaan in form 6 is the same.

يَعْنِي اِسْمِ فَاعِلِ بِنَانِ كِ لِيْ فِعْلِ مَضَارِعِ مَعْلومِ كِي عِلَامَتِ مَضَارِعِ كُو هِثَا كَرْمِيْمِ (مُ) مَضْمومِ لْگادِيں اَوْرِ آخِرِي (لَامِ كَلِمِه) پَر تَنْوِيْنِ لْگادِيں۔

It means to make Ism Faa'il the sign of Mudare of Mudare Maloom is replaced by Meem Madmoom and the last letter (Laam Kalimah) is given a Tanween.

اَوْرِ اِسْمِ مَفْعولِ، اِسْمِ مَكَانِ وَ زَمَانِ بِنَانِ كِ لِيْ فِعْلِ مَضَارِعِ مَجْهولِ كِي عِلَامَتِ مَضَارِعِ كُو هِثَا كَرْمِيْمِ (مُ) مَضْمومِ لْگادِيں اَوْرِ آخِرِي (لَامِ كَلِمِه) پَر تَنْوِيْنِ لْگادِيں۔

To form Ism Mafa'ool, Ism Makaan, Ism Zamaan, the sign of Mudare of Mudare Majhool is replaced by Meem Madmoom and the last letter (Laam Kalimah) is given a Tanween.

باب اِفْتِعَالُ فَاْرَم 8 فِعْلِ اَمْرِ: Fail Amar (Imperative) of Baab Ifti'alun form 8:

باب اِفْتِعَالٌ میں بھی فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر دیں تو فاء کلمہ ساکن ہو جائے گا، چونکہ فاء کلمہ ساکن پڑھا نہیں جا سکتا اس لئے امر کے شروع میں ہمزة الوصل لگایا جاتا ہے۔ لام کلمہ کو بھی ساکن کیا جاتا ہے۔

In Mudare' Ma'loom of Form 8 By replacing Hamzat al wasl with the sign of mudare. Ain Kalimah gets a Kasrah and Laam Kalimah(third radical) has a Damma

(ك س ب) اِكْتَسِبَ تَتَسَّبِ اِكْتَسِبَ كَمَاؤُ! do earn!

باب اِفْتِعَالٌ فارم 8 مصدر:

اعتَبَرَ / اعتَبَرَ بِ يَعْتَبِرُ ، اعتبارًا ، فهو معتَبِرٌ ، والمفعول معتَبَرٌ

اعتبار کرنا
to trust.

اِخْتَلَفَ / اِخْتَلَفَ إِلَى / اِخْتَلَفَ عَلَى / اِخْتَلَفَ عَنِ / اِخْتَلَفَ فِي يَخْتَلِفُ ، اختلافًا ، فهو مُخْتَلِفٌ ، والمفعول مُخْتَلَفٌ (للمتعدِّي)

اختلاف کرنا
to disagree .

اجْتَمَعَ / اجْتَمَعَ بِ يَجْتَمِعُ ، اجتماعًا ، فهو مُجْتَمِعٌ ، والمفعول مُجْتَمَعٌ بِهِ

اکٹھا ہونا
to gather

انْتَظَرَ يَنْتَظِرُ ، انتظارًا ، فهو مُنْتَظِرٌ ، والمفعول مُنْتَظَرٌ

انتظار کرنا
to wait .

انْتَخَبَ يَنْتَخِبُ ، انتخابًا ، فهو مُنْتَخِبٌ ، والمفعول مُنْتَخَبٌ

انتخاب کرنا
to choose.

باب اِفْتِعَالٌ فارم 8 تعلیلات:

باب اِفْتِعَالٌ فارم 8 مصدر کا بنیادی وزن "اِفْتِعَالٌ" ہے۔ لیکن افعال کے مادہ کے اعتبار سے اقسام کے مطابق مصدر میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔

The remedial rules for Sulaasi Mujarrad and Sulaasi Mazeed Fihi, Mahmuzul Fa and Mua'ttal verbs are the same. But some changes occur in it consistent with the type of verb according to the root letters.

أَجَوَفُ واوی مصدر: باب اِفْتَعَالُ فارم 8 میں جو افعال "أَجَوَفُ واوی" کی قسم سے ہوں تو ان کے مصدر میں اگر حرف علت واو سے پہلے کسرة کے واقع ہو تو مطابقت کی وجہ سے "واو" حرف "ياء" میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیچے دی گئی مثالوں میں تبدیلی پر غور کریں۔

Masdar of Ajwaf Waawi: The Masdar of verbs from Ajwaf Waawi categories in form 8 have their Ain Kalimah Herf Illat waw will change into Ya according to the Compatibility/ Coordination with the Kasrah. See the change in the following examples:

اجْتَابَ اجْتِيَابُ اَصْلُهُ اجْتِيَابُ
 (ج و ب) اجْتَابَ يَجْتَابُ ، اجْتَبَ ، اجْتِيَابًا ، فَهُوَ مُجْتَابٌ ، وَالْمَفْعُولُ مُجْتَابٌ
 گھنا Penetrate something.

ناقص واوی ویائی مصدر: باب اِفْتَعَالُ فارم 8 میں جو افعال "ناقص واوی اور یائی" کی قسم سے ہوں تو ان کے مصدر میں حرف علت لام کلمہ وزن کی الف زائدہ کے بعد آخر میں "همزة" میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیچے دی گئی مثالوں میں تبدیلی پر غور کریں۔

Masdar of Naaqis Waawi and Yae: In the Masdar of the verbs from Naaqis Waawi and Yae categories in form 8 the Laam Kalimah Herf Illat after the Alif Zaidah of the pattern, changes to Hamzah. See the change in the following examples:

(ش ري) اشْتَرَى يَشْتَرِي ، اشْتَرِ ، اشْتَرَاءً ، فَهُوَ مُشْتَرٍ ، وَالْمَفْعُولُ مُشْتَرَى
 خریدنا Purchase.

اشْتَرَى اشْتَرَاءً اَصْلُهُ اشْتَرَايَ

مضعف و أجوف اسم فاعل، اسم مفعول:

باب اِفْتَعَالُ فارم 8 میں مضعف اور أجوف کے اسم فاعل اور اسم مفعول کے دونوں صیغے ہم شکل ہوں گے۔

Form 8 ism maful have same form, which stand for the ism fail and for the ism maful.

(ش ق ق) اشْتَقَّ يَشْتَقُّ ، اشْتَقِّقْ / اشْتَقِّقْ ، اشْتَقَّا ، فَهُوَ مُشْتَقٌّ ، وَالْمَفْعُولُ مُشْتَقٌّ

دوسروں سے حاصل کیا . Derived from others .

اسم فاعل: مُفْتَعَلٌ اَصْلُهُ مُشْتَقٌّ مُشْتَقٌّ
 اسم مفعول: مُفْتَعَلٌ اَصْلُهُ مُشْتَقٌّ مُشْتَقٌّ

(خ ي ر) اخْتَارَ يَخْتَارُ ، اخْتَرْ ، اخْتِيَارًا وَخِيَرَةً وَخِيَارًا ، فَهُوَ مُخْتَارٌ ، وَالْمَفْعُولُ مُخْتَارٌ

متخب کیا جانا. To be selected chosen.

مُخْتَارٌ	أَصْلُهُ	مُفْتَعِلٌ	مُخْتَبِرٌ	اسم فاعل:
مُخْتَارٌ	أَصْلُهُ	مُفْتَعِلٌ	مُخْتَبِرٌ	اسم مفعول:

ہمزۃ الوصل کا قاعدہ:

باب اِنْفِعَالُ فَاوَمِ 7 کِیَطْرَحِ اس باب میں بھی اگر فعل کے شروع میں ہمزۃ استفہام آجائے تو ہمزۃ الوصل حذف ہو جائے گا اور ہمزۃ القطع مفتوح شروع میں رہے گے۔

Like form 7 If the interrogative hamzah al istifham is prefixed to this bab the Hamzat ul wasl is omitted, e.g,

اِنْتَضَرْتَنِي تم نے میرا انتظار کیا۔ اُنْتَضَرْتَنِي کیا تم نے میرا انتظار کیا؟
Did you wait for me? You did wait for me.

﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (الصفات: 153)

کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ پسند کیا ہے۔

Has He chosen daughters over sons?

Characteristics of Form 8 Baab Ifti'alun:

باب اِنْفِعَالُ فَاوَمِ 8 خصوصیات:

شدت: (Intensity) اس باب میں شدت اور مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

This form has a sense of intensity and exaggeration.

جَهَدَ اس نے کوشش کی He tried. اِجْتَهَدَ اس نے انتہائی کوشش کی He tried hard/utmost.
كَسَبَ اس نے کمایا he earned. اِكْتَسَبَ اس نے بہت زیادہ کمائی کی He earned a lot.

اشْتِرَاك (مشارکت، تشارکت): (Association, participation, contribution)

اس باب کی خاص خصوصیت مشارکت ہے۔ فاعل اور مفعول دونوں کے کسی کام میں شریک ہونے کو مشارکت کہتے ہیں۔ دو افراد یا دو گروہ فعل میں اس طرح شریک ہوں کہ ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہو۔ اس کی ایک تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ کام میں دو گروہ یا افراد اس طرح شریک ہوں کہ دونوں ہی فاعل بھی ہوں اور دونوں ہی مفعول بھی ہوں۔

2) Association: is the special characteristic of this Form. Mushaarekat (Association) means both Faa'il and Mafool are participating in the work. Two individuals or two groups are involved in a work in such a way that one is the doer and the other is the object. This is also defined in another way as two individuals or groups are participating in such a way that both are doers as well as objects. See the examples:

سَبَقَ وہ لے گیا۔ He went ahead. اِسْتَبَقَ وہ دوسرے سے سبقت لے گیا۔ He surpassed the other.

المِطَاوَعَةُ: (compliance, consistency, obedience)

باب 7 باب اِنْفِعَالُ فارم کی طرح باب اِنْفِعَالُ فارم 8 کی بھی ایک خصوصیت "المِطَاوَعَةُ" ہے۔

Al-mutawattu is also the characteristic of this Form like form 7.

ثَلَاثِي مجرد مطاوعت: مَلَأْتُ الْكُؤْبَ اِمْتَاً الْكُؤْبُ میں نے کپ بھرا تو کپ بھر گیا۔

I filled the cup the cup was filled.